

<p>しんごう</p> <p><b>traffic light</b></p> <p><b>ilaw ng trapiko</b></p>	<p>止まれ</p> <p><b>stop</b></p> <p><b>huminto</b></p>
<p>321</p> <p>ボランティア</p> <p><b>volunteer</b></p> <p><b>boluntaryo</b></p>	<p>325</p> <p>しょうかせん</p> <p><b>fire extinguisher</b></p> <p><b>pampatay ng apoy</b></p>
<p>322</p> <p>のうか</p> <p><b>farm</b></p> <p><b>bukid</b></p>	<p>326</p> <p>つうがくろ</p> <p><b>road for commuting</b></p> <p><b>for school</b></p> <p><b>daanan ng mga mag-aaral</b></p>
<p>323</p> <p>かんばん・マーク</p> <p><b>placards / mark</b></p> <p><b>karatula / marka</b></p>	<p>327</p> <p>ひなんばしょ</p> <p><b>evacuation place</b></p> <p><b>lugar ng pag-ebakweyt</b></p>

<p>しらべる・しらべ名人 pananaliksik / taong kilala sa pag-iinbestiga</p> <p>329</p>	<p>ミニトマト maliit na kamatis</p> <p>333</p>
<p>くわしく (かこう) isulat ng mabuti ang buong detalye</p> <p>330</p>	<p>しらべたことをまとめる ayusin ang kabuuan ng detalye</p> <p>334</p>
<p>インタビュー pakikipanayam</p> <p>331</p>	<p>コーナー sulok</p> <p>335</p>
<p>むかしのまちのようす itsura ng lumang bayan</p> <p>332</p>	<p>めいぶつ natatanging espesyalidad</p> <p>336</p>

<p>(だい) しゅうごう 大集合 gather together magtipon 337</p>	<p>ザリガニ・はさみ crawfish scissors ulang gunting 341</p>
<p>じまん magyabang 338</p>	<p>きゅうり pipino 342</p>
<p>おれい (のてがみ) liham ng pagpapasalamat 339</p>	<p>オクラ okra 343</p>
<p>すいか pakwan 340</p>	<p>えだまめ sitaw / buto 344</p>

<p>コンポスト lagayan ng mga basura na maaring maging fertilizer.</p> <p>345</p>	<p>わきめ・つむ・とる gilid ng bunga na tumubo/ tanggalin/</p> <p>349</p>
<p>ふようど・ませあわせる lupang may pampataba/ paghaluin</p> <p>346</p>	<p>まちどおしい matagal na naghinhintay</p> <p>350</p>
<p>うね tudling</p> <p>347</p>	<p>みのる magbunga</p> <p>351</p>
<p>しちゅう・とめる haligi . Itakda</p> <p>348</p>	<p>バッタ・カナブン tipaklong / bubuyog</p> <p>352</p>

<p>のはら・くさむら</p> <p>kapatagan / damuhan</p> <p>353</p>	<p>はこめがね ぎゅうにゅうパック/ラップフィルム</p> <p>babasaging karton/ karton ng gatas/wrap film</p> <p>357</p>
<p>さがす・さがしにいこう</p> <p>hanapin / pumunta para hanapin</p> <p>354</p>	<p>オニヤンマ・アメンボ</p> <p>tutubi / pond skater</p> <p>358</p>
<p>つゆくさ</p> <p>pang-araw na bulaklak</p> <p>355</p>	<p>ヤドカリ・イワガニ イトマキヒトデ</p> <p>may bahay na alimasag/ alimasag sa batuhan / starfish</p> <p>359</p>
<p>ペットボトルの虫かご きり口・ビニールテープ</p> <p>lalagyan ng insekto na boteng plastik/binil na tape</p> <p>356</p>	<p>イチゴパック・あきびん</p> <p>pakete ng strawberry / walang laman na bote</p> <p>360</p>

<p>アゲハ (ちょう) paroparo</p>	<p>かくれが・たまごのから taguan/ balat ng itlog</p>
<p>361</p> <p>カラタチ・ミカン サンショウ (の葉)</p> <p>(Ito ay isang klase ng puno ng orange na gustong pagkain ng paroparo na ageha</p>	<p>365</p> <p>かまきり (のかお) さんかく</p> <p>praying mantis(mukha) tatsulok</p>
<p>362</p> <p>ヤゴ・イトミミズ ボウフラ</p> <p>larva/ bulate sa lupa / larva</p>	<p>366</p> <p>トンボ 目</p> <p>tutubi/mata</p>
<p>363</p> <p>かたつむり・しめったばしょ</p> <p>suso / mamasa masang lugar</p>	<p>367</p> <p>(かたつむりが) おちない</p> <p>ang suso ay hindi nahuhulog</p>

<p>ヤゴのへんしん pag-iba ng anyo ng larva</p>	<p>メダカ maliliit na isda</p>
<p>369 ザリガニのオス・メス 足のつき方 paglaki ng paa ng lalaki at babaeng alimango</p>	<p>373 じょうほう impormasyon</p>
<p>370 カブトムシ・足にとげとげ beetle / matinik na mga paa</p>	<p>374 いけにかえす (かえそう) ibalik sa lawa (hayaan makabalik)</p>
<p>371 ヤゴの下あご えものをつかまえる sa bandang baba ng larva nakakahuli ng makakain</p>	<p>375 こうさく (工作) sining at kasanayan</p>
<p>372</p>	<p>376</p>

やさいのきれはし hindi kailangan parte ng gulay 377	のりでくっつける idikit sa glue 381
ひらめく (ひらめいた) biglang naisip 378	(友だちと) きょうそうする makipagpaligsahan (sa kaibigan) 382
もっとないかな wala na ba 379	チャレンジする paghamon 383
いらなくなつたもの hindi na kailangang bagay 380	キャンプ・カレー kampo kari 384

<p>ぼんおどり sayaw pag summer</p>	<p>かぜではしるじどう車 ストロー sasakyang straw na pinapagalaw ng hangin</p>
<p>385</p> <p>ゴムじどう車 gomang sasakyang</p>	<p>389</p> <p>ころころゲーム だんボール・ボンド pagulong na laro/ karton/ glue</p>
<p>386</p> <p>竹ひご・タイヤ・ビーズ stick na kawayan/ gulong/ beads</p>	<p>390</p> <p>コース・ビー玉 gulungan ng bulitas</p>
<p>387</p> <p>きょうりょくにする 強力 palakasin</p>	<p>391</p> <p>トントンずもう larong sumo wrestling sa pamamagitan ng pagtaktok sa gilid ng papel</p>

<p>きりとる きりこみをいれる</p> <p>gupitin / lagyan ng palatandaan kung saan gugupitin</p> <p>393</p>	<p>とうめいテープ ガムテープ</p> <p>scotch tape / tape na tela</p> <p>397</p>
<p>おる・つける</p> <p>tiklupin / ilagay o idikit</p> <p>394</p>	<p>ずのようにおく</p> <p>ilagay ayon sa diagram</p> <p>398</p>
<p>ビー玉おとし</p> <p>panhulog sa bulitas</p> <p>395</p>	<p>わりばし・フィルムケース せんたくばさみ</p> <p>chopstick /lalagyan ng film/pang-ipit sa labahin</p> <p>399</p>
<p>ぴょんぴょんガエル とびあがる</p> <p>pagtalon gaya ng palaka</p> <p>396</p>	<p>かみざら・クリップ・糸</p> <p>papel na plato/clip/panali</p> <p>400</p>